



یہ مراسلہ مندرجہ ذیل زبانوں میں بھی دستیاب ہے: انگریزی، عربی، آسان شدہ چینی، روایتی چینی، فارسی، گجراتی، عبرانی، کوریائی، پنجابی، روسی، تامل، ترکی، اردو اور ویتنامی۔

YRDSB 2021-22 جائزے (سرورے) طلباء و خاندان

محترم والدین/سرپرست صاحبان:

طلباء اور خاندانوں سے متعلق معلومات ہمارے لیے اہم ہیں۔ یارک ریجن ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ اس تعلیمی سال میں تجربات آموزش کی بہتر فہم کے لیے یکم 1 - 30 جون، 2022 کے درمیان طلباء (گریڈز 7 تا 12) اور خاندانوں (گریڈز K-12) کے ساتھ ایک جائزہ انجام دے گا۔ یہ جائزہ تقریباً 20 منٹ میں مکمل ہوگا۔

اس جائزے میں مندرجہ ذیل باتوں سے متعلق سوالات شامل ہوں گے:

- آموزشی نمونہ، ٹیکنولوجی اور آموزشی وسائل (ٹولز)
- رابطہ اور آموزش
- خاندان/اسکول سے تبادلہ خیال اور معاشرے سے رابطہ
- تندرستی اور ذہنی صحت
- ساتھیوں اور عملے کے ساتھ تعلقات
- حفاظت، تفریق اور غنڈہ گردی
- منصفانہ اور شمولیتی آموزش کا ماحول
- طالب علم کی شناخت

یہ سمجھنے میں مدد کے لیے کہ کس طرح آموزشی تجربات طلباء کے گروہوں کے درمیان الگ الگ ہو سکتے ہیں ہم طلباء کی شناخت (مثلاً نسل اور صنف) کے بارے میں سوالات پوچھتے ہیں۔ جائزوں کے نتائج میں 2022-23 تعلیمی سال کے دوران متولیوں (ٹرسٹیوں)، اسکولوں بورڈ کے شعبوں اور عوام کو شریک کیا جائے گا۔

حاصل کردہ معلومات مندرجہ ذیل مقاصد سے استعمال کی جائے گی:

- طالب علم کی ذہنی صحت اور تندرستی سے متعلق اہم معلومات۔
- صحت مند، شمولیتی، اور منصفانہ آموزشی اور عملی ماحول فراہم کرنے کے لیے نظام میں حائل رکاوٹوں کی نشاندہی کرنا۔
- پروگرام تشکیل کرنا، ترجیحات قائم کرنا اور ایسا وسائل تیار کرنا، تاکہ جامع، خوشگوار اور پرتعاون ماحول تخلیق کرنا جہاں تمام طلباء کو اپنی اہمیت اور اپنائیت کا احساس ہو۔

جائزہ خاندان آن لائن انگریزی، عربی، آسان شدہ چینی، روایتی چینی، فارسی، گجراتی، عبرانی، کوریائی، پنجابی، روسی،

تمل، ترکی، اردو اور ویتنامی زبانوں میں دستیاب ہوگا۔

مختلف استثناء کے حامل شرکت کنندگان کو موقع دینے کے لیے گوگل ریڈ اینڈ رائٹ جیسے آواز شناسی کے سافٹ ویئر کی مدد سے طلباء اور خاندانوں دونوں کے جائزوں کو مکمل کیا جا سکتا ہے۔ جائزے کے سوالات اسکرین ریڈرز سے مطابقت رکھتے ہیں۔ آپ کے حوالے کے لیے، طلباء اور خاندانوں دونوں کے جائزوں کی نقول (کاپیاں) [یورڈ ویب سائٹ](#) پر دستیاب ہیں۔

جائزے (سروے) گمنام اور خفیہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طلباء اور خاندانوں کے افراد سے ان کے نام نہیں پوچھے جائیں گے اور ان کے انفرادی جوابات کی اطلاع نہیں دی جائے گی۔ یہ جائزے رضاکارانہ ہیں اور جواب دہندگان ایسے کسی سوال کو چھوڑ کر جس کا جواب وہ نہ دینا چاہیں آگے بڑھ سکتے ہیں۔۔

ان جائزوں میں فراہم کردہ معلومات تک صرف YRDSB کے ریسرچ اینڈ اسسٹمنٹ سروسز ڈیپارٹمنٹ کی رسائی ہو سکتی ہے۔ ہمارے زیر استعمال فریق ثالث کا جمع معلومات کے طریقے کی جوابات رسائی اس وقت تک بھی ہوگی جب تک کہ ریسرچ اینڈ اسسٹمنٹ سروسز ڈیپارٹمنٹ انہیں جائزے کے ختم ہو جانے کے بعد ہٹا نہ دے۔ معلومات کی تخرین (ذخیرہ) اور بحالی میں [یورڈ پالیسی اینڈ پروسیجر #160.0 ریکارڈز اینڈ انفارمیشن مینجمنٹ پر عمل کیا جائے گا۔](#)

گریڈز 7-12 کے طلباء کو جائزہ طلباء میں شرکت کے لیے GAPPs اکاؤنٹ میں ایمیل دعوت نامہ موصول ہوگا اور انہیں جائزہ مکمل کرنے کے لیے یکم (1) جون سے 30 جون کے درمیان دوران کلاس وقت فراہم کیا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گریڈز 7-12 کے بچہ (بچوں) کو جائزہ طلباء کا دعوت نامہ نہ ارسال کیا جائے یا اگر آپ کو جائزے سے متعلق سوالات پوچھتے ہوں تو، براہ کرم 26 مئی 2022 تک research.services@yrdsb.ca سے رابطہ کریں۔ والدین/سرپرستوں کو اس پتے کے ذریعے جو ان کے بچے کے اسکول کی فائل پر درج ہے جائزہ مکمل کرنے کے لیے دعوت نامہ موصول ہوگا۔

جو جو ہم طلباء اور والدین کی متنوع ضروریات کی تکمیل کرتے رہنے کے لیے ان کی آوازوں کو مل جل کر سنیں گے یہ اہم اقدام ہمارے منصوبے کو مزید آگے بڑھائے گا۔ آپ کے تعاون کے لیے شکریہ۔